

تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: E. Frischbutter

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com


کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



اسراييلک ہر کانہہ چیز اوس خراب باسان۔ بادشاہ تہ ملکاني اُس خدايس نفرت
کران۔ کيتر خراب مثال اُس! دُستی گُر لُوکو تہ خدايس نفرت، تہ اُپزین خداين
کران اُس عبادت۔ کانہہ اوسا خدايس محبت کران؟ آ! تہ اُس کينہہ
وفادار عبادت گزار۔



اکہ دوه، خداين
گُر اکس ستي
کتھ یمس ايليا
ناؤ اوس۔




ایلیاہنّ وون بد کار بادشاہ
آہابّ بس، "یوتام اسرائیلک
خداوند زندہ چھ، نہ پیہ
شبم نہ بارش یمن ورین،
صرف میانی کتھ"۔ اموک
مطلب چھ قحط! خدا تراو
نہ پن اسرائیلکین لوکن
بدکاری منز۔





بادشاہس ژینہ وَن دینہ پتہ، سوز خداین اہلیا اتہ ملکس منز اِکس خاموش جایہ۔
اہلیاہن کور اِکس کولہ نش انتظار۔ خداین سوز جنگلی کاو اُمس کھیاؤنہ باپتہ۔
تِم اَس ژوٹ تہ ماز صبحس شامس انن۔ اہلیا اوس کولہ منز تریش چیوان۔





دستی ہوچھ کول، تکیاز اتھ زمینس اُس نہ بارشی پیمڑ۔ خدایہ سنڑ کتھ اُس پوز
نیران۔ سارسے ملکس منز گیہ آب کامن۔ فصل تہ وپدیئے نہ کینہہ۔ لوک اُس
فاقے۔ اہلیا ہس گوو تعجب ون کیاہ بنہ۔ ون اوس آب تہ گو مت۔



خداین وۆن اہلیآ ہس، "ووتھ، گژھ زراپت،

تہ بس تہ۔ وچھ، میہ چھہ اِکس مونڈ^ط

حکم کورمت سہ دیی ژ سورے

کینہہ۔ "خدایس آسہ پننس نوکر سنز

ضرورت پٹاہ۔ دینچہ آس عجیب وتہ۔

اہلیآہن گری نرمی سان تابعداری۔

ییلہ یہ زراپت ووت، سو مونڈ^ط آس



شہرکس دروازس پیٹھ ترشہ

زالنہ باپت جمع کران۔




اهلیا بن وون اُمس زنانہ، "مہربانی
کرتھ ان میہ کیتھ آبہ پیالا،
بیہ دِ ژوچہ کھنڈا۔"
موندِ دیتھ جواب،

"ٹوکر منز چہ آٹہ
موٹھا تہ ڈبس منز تیلہ رڑھا۔"
ییلہ یہ کھیتھ موکلوؤکھ،
پریشانی سان ون تمہ زنانی
اُمس نبیس زِ سہ تہ تمہ سُنڈ
نیچو مرین فاقے۔




اهلیا بن ون، "مؤ کھوژ۔ تمہ منز بناؤ میہ کپڑا کھ لوکٹی ژوٹ پتہ بناؤ کینہہ پانس تہ پنس نیچوس کیت۔ نہ مکله اوٹ نہ مکله تیل توتام یویام خدا زمینہ بارش تراؤ۔"
خودایس چہ یتہ معجز ہاون پیوان۔ تم ہاوی! تمہ زنانہ تہ تمہ سند نیچو کھو
واریاہن دوہن، نہ مکلاؤ اوٹ نہ تیل۔



اهلیا گُزار زندگی یمن سترے۔ اکہ دوه او پریشانی ہند اکھ واقعہ پیش۔ موئد ہند نیچو
مؤد۔ اہلیا ہن نو ہرمس کمرس منز۔ تمہ دژ خدایس کریکھتہ وُننس،


"میانہ خدایہ، یمس شُرس دیہ روح
واپس،" یہ اوس اکھ ناممکن دُعا!



خداوندن بۇز اہلیآہن دُعا تہ شُرس آو روح واپس،
سہ گوو زندہ۔ ییلہ اہلیآہن تل شُرتہ گرن ماجہ
حوالہ، تمہ وون، "تمہ ستی تور میہ فکرِ خدایہ
سُند لفظ چانی اُسس چہ پز۔"



ترے وری پتہ سوز خداین اہلیا بادشاہس نش، وونن، "ون سوز بہ زمینی پیٹھ روڈ۔"
گڑھ آہابس نش؟ تمہ سنز زنانہ اُس ہتہ بد خدایہ سُنڈ نبی قتل گِرمِت۔ اہلیاہن ون نہ
واپس کینہہ۔ سہ گوو آہابس نش۔



يٰٓاَيُّهَا تَمِّمِ زِ شَخْصِ

سَمَكِهِيَا مِ، اِهْلِيَا بِنِ كُوْر

اَبَا بَسِّ چَلِيْنَجِ كَرُوْ كِه


اِسْرَايِيْلِكِ تَمَامِ تَمِّمِ 850 اَپْرِ

نَبِي جَمْعِ - مَوْنِطِ كَارْمَلِ

پِيْطِه كُوْر اِهْلِيَا بِنِ لُوْ كِنِ

خَطَابِ - "اِگْرِ خَدَاوْنَدِ خَدَا

چِهْ پَكِه هَسِ پْتِه پْتِه -"



اہلیان اُس ز داند تہاؤمتہ قربانی خاطر تیار۔ پوزیم زالنہ باپتہ اُس نہ نار زالنچ
ضرورتہے۔ تمہ وون "توبی کرپو پنین خداین آلو، تہ بہ گر پینس خداوندس
آلو۔ یس خدا نار ستی جواب دیہ سو چہ خدا۔" لوکو دیت جواب، "اصل
کتہ ونہوؤ۔"



صبحو پیٹھِ شام تَام دُیت اِیزی یأری نبو پننن اِیزن خداین آلو۔ تمو توجہ ووٹہ تہ نثر
شراکھو ستری ژوٹک پان یوتام تمن خون ووتہ۔ مگر نار او نہ کونے۔



تمہ وقتہ اہلیاہن ادرآو لکیر آب
ستی تہ کورن دَعا۔ "اے
خداوند میون بوز زیمہ لوکھ
زانہن ژ چھک خوداوندن ہند
خودا۔۔۔" پتہ ووتہ خوداے
سُند نآر۔ تمہ زآلی داند تہ لکیر۔
یہ روڈ کنی قربان گاہس تام!



يٰٓاَيُّهَا لُوْكَو يٰٓهٗ وَجْهٖ، تَمُوْ دِزِي كَرِيكَهٗ، "خداوند، يٰٓهٗ چُهٗ
خدا"۔ اہليآ بن ون، "رُئي ہوكهٗ بالِ دِوٽا سُندي نبي۔ يمن
مہ ديو ٿلنہ!" اہليآ بن کور تہ ييہ بادشاہ آہابس پزہے واريہ
برونہہ کورن۔ تمہ ماٿر آپزي نبي۔



پتہ ون خدایہ سندی نوگرن آہابس، روڈ
چھ ینہ وول۔ جلدے کھوت معمولی
اُبر۔ کیاہ روڈ پرے یاہ؟ ترے وری زیاد
وقتہ پیٹھ خطرناک خوشکھ سالی پتہ؟





كَمْ وَقْتِ پَتِهٖ اسْمَانِ گَوُو سِيَاهِ
اُبْرِ تِهٖ وَاوِ سَتِي، تِهٖ تَتِهٖ پِيُو
زَبْرَدَسِ رُوْدِ - خَدَايْنِ سُوْزِ رُوْدِ -
خَدَايْنِ هُوُو لُوْكَنِ زِ اَيْلِيَا اَوْسِ
پُوْزِ وِنَانِ - خَدَايْنِ هُوُو زِ سُهٗ چُهٗ
كُوْنِي زُوْنِ پُوْزِ خَدَا -



کياہ توہی چہوا سونچان ز بادشاہ آہابن
کور خدایس تہ اندس خدمت گار
ایلیاہس یزتہ؟ نہ! حقیقتن، یزیلہن
گری ایلیاہ مارنچ کوشش، مگر سہ
ژول۔ آخرس پیٹھ، آہا گوو مار جنگس
منز تہ اندبو نوکرو دیت یزیلس محلکہ
بلند دیوار پیٹھ دہکہ تہ پیو بون۔ سہ پیو
کنین پیٹھ بُنہ تہ ژولس زو نرتہ۔





اهلياسَ كياہ سپد؟ اِکہ دوہ
سوز خداين نارؤ رتہ نارِ كين گرن بيتہ؛ تہ
ايلياَ: خدايہ سُنْد نارمہنيو، نپو تيز واون
ويڈ مے ويتہ ہيركن آسمانس مَنز۔



نارسَ پِٹھِ یختیار تھون وول شخص

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

1 بادشاہ 17-19، 2 بادشاہ 2

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

